

جهات

مخالفت برائے مخالفت کی سیاست

اختلاف رائے ایک فطری چیز ہے۔ چنانچہ انسانی تاریخ کا کونسا ایسا دور ہے اور انسانی زندگی کا کونسا ایسا پہلو ہے جس میں اختلاف رائے نہ ہوا ہو۔ اس اختلاف کا نشاء دین دنیا کے کسی بھی معاملے میں اگر خلوص، محبت، رضائے الہی، انسانیت کی بھلائی اور قوم و ملک کی بہتری ہو تو ایسا اختلاف رحمت الہی، معاملات میں حسن، ملاجیتوں کے لکھار، تمدن و معاشرتی زندگی میں خوبصورتی و رونق، علم و تحقیق میں ترقی، احکام میں سولت و آسانی اور باہمی اخوت و محبت کا باعث بنتا ہے ورنہ یہی اختلاف رحمت، بگاز، معاشرہ میں سُخن، تعصب، تشدد، تگلی اور باہمی عداوت و نفرت کا سبب بن جاتا ہے۔

وطن عزیز کے سیاسی افق پر ہماری معلومات کی حد تک گزشتہ کئی عشروں سے یہ روشن چلی آ رہی ہے کہ حکومت اور بر اقتدار جماعت اچھا یا برا کوئی بھی کام کرے اپوزیشن نے بلا تفصیل اور بہر حال اسکی مخالفت کرنا، اس کو ہدف تقدیم بنا اور اسکے خلاف جوڑ توڑ کرنا ہی ہوتا ہے۔ ایک اسلامی اور جموروی حکومت میں صرف کسی سیاسی جماعت کو یہی نہیں بلکہ ملکت کے ہر شری اور باشندے کو آزادی رائے اور حکومتی پالیسیوں پر تحریری و اصلاحی تقدیم کا نہ صرف حق ہے بلکہ اس کا فرض بھی ہے۔ اسی طرح حکومت پر بھی لازم ہوتا ہے کہ وہ اقتدار اور اختیارات اور مینڈیٹ کے نئے میں اپنے آپ کو ”عقل کل“ نہ سمجھے بلکہ مشتبہ اور تحریری تقدیم کو نہ صرف برداشت کرے بلکہ اس کے مطابق اپنی اصلاح بھی کرے۔ مگر

”اتتفقوا علی ان لا یتفقوا“

(انہوں نے اس بات پر اتفاق کر رکھا ہے کہ وہ کبھی متفق نہ ہو گے)

یا مخالفت برائے مخالفت اور نائگ کھینچنے کی سیاست کا نہ شرعاً جواز بنتا ہے نہ اخلاقاً اور نہ ہی ملکی معاشرتی حالات اس امر کی اجازت دیتے ہیں کہ کوئی جماعت مخفی اپنی سیاست اور لیڈری

چکانے کے لئے ایسا کرے۔

حکومت اور اپوزیشن دونوں کے لئے خلیفہ اول اور خلیفہ راشد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول یا بیان مشعل راہ ہے جو آپ نے منصب خلافت کے لئے منتخب ہونے کے بعد سب سے پہلے اور پالیسی ساز خلیفہ کے ابتداء ہی میں دیا ۔ اور جسے الطبقات الکبریٰ میں ابن سعد اور البدایہ والنسایہ میں ابن کثیر کے علاوہ متعدد مستند سوراخین نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے ۔ آپ نے فرمایا

”یا ایها الناس فانی قد ولیت علیکم و لست بخیر کم فان احسنت فاعینونی و ان اسألت فقو مونی“

لوگو ! میں تم پر حاکم مقرر کیا گیا ہوں حالانکہ میں تم لوگوں میں سب سے بہتر نہیں ہوں ۔ اگر میں اچھا کام کروں تو میری اعانت کرو اور اگر کوئی برا یا غلط کام کروں تو مجھے سیدھا کر دو ۔ مگر پاکستان میں اب احتجاجی ریلیاں اور جلوس نکالنا اور احتجاج کے نام پر جلسے ”تحریک“ ”مارچ“ اور ”کارواں“ ترتیب دے کر غریب لوگوں کو پکڑ پکڑ کر سڑکوں پر لانا“ اپنی سٹریٹ پاور کو شو کرنا، گلا پچاڑ چھاڑ کر مخالفین کو ہدف تنقید بھانا اور اپنے فن خطاب کا مظاہرہ کرنا ہماری سیاست کا لازمی حصہ اور جزو لا یافت بن گئے ہیں ۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا سیاست کا یہی مطلب ہے کہ آئئے دن ہر تالیں کی جائیں، ہلا گلا کیا جائے، ٹرین مارچ کیا جائے، احتجاجی کارواں، ٹرین مارچ، یو تھ مارچ اور جلوس ترتیب دے کر شروع میں روز مرہ نظام زندگی اور کاروبار کو درہم برہم کر دیا جائے۔ سڑکیں اور رستے بلاک کر دیئے جائیں، منگالی کے مارے اور افلام زدہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کی بجائے ان کے آلام و مصائب میں مزید اضافہ کیا جائے اور ان کے زخموں پر نمک چھڑکا جائے یا پھر ایک انتہائی سمجیدہ اور با معنی عمل کا نام ہے جس کے ذریعے عوام کی علمی، دینی، معاشی و اقتصادی ترقی اور معاشرتی اصلاح کے لئے مخلصانہ جدوجہد کی جاتی ہے ۔

ہمارے سیاستدانوں نے شاید اس بارے میں کبھی غور نہ کیا ہو مگر ملک کا سمجیدہ طبقہ یہ

ضرور سوچتا ہے کہ آیا سیاست میں مخالفین پر سُک باری کرنا، جائز ناجائز الزام تراشی کرنا، خواہ
خواہ عیب جوئی کرنا اور کچڑا چھالنا ضروری ہے؟ کیا اس کے بغیر سیاست نہیں ہوتی؟ قیام پاکستان
کے پچاس سال گزر جانے اور اپنی سیاسی جماقتوں کے باعث ملک کا ایک حصہ گوا دینے کے بعد
بھی اگر ہمارے سیاستدانوں میں ذمہ دارانہ سیاست کرنے کی الہیت پیدا نہیں ہو سکی تو پھر ایسا
کب ہو گا؟ یہ امر کس قدر تکلیف ہے کہ ملکی سیاست، معاشرت، معیشت، کاروبار، تعلیم اور
امن و امان کی صورتیاں جس فکر اور سمجھیدہ رویے کی متقاضی ہے ہماری سیاسی جماعتوں اس سے
کوسوں دور ہیں۔ یہ ہر ذمہ دار اور باشمور آدمی کے دل کی آواز ہے کہ جس قسم کے طرز
سیاست نے ہمارے ملک میں گھر کر لیا ہے وہ اس ملک کے غریب عوام کے مسائل کا حل نہیں۔
اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، نہ ملکی معیشت سنبھل سکتی ہے، نہ اقتصادی ترقی ہو سکتی
ہے، نہ قرضوں کے بوجھ میں کمی آسکتی ہے، نہ دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے، نہ فرقہ وارانہ
تعصب و تشدد کو روکا جاسکتا ہے اور نہ ہی امن و امان قائم ہو سکتا ہے۔ اس لئے حکومت اور
تمام اپوزیشن جماعتوں سے ہماری گزارش ہے کہ خدارا تائافتہ بہ ملکی حالات کے پیش نظر محض
بغض معاویہ میں جوڑ توڑ، اتحاد سازی، ریلیوں اور ہلے گلے کی سیاست کے ذریعے ایک دوسرے
کی ٹانگ کھینچنے اور اپنی خداداد صلاحیتوں کو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے پر خرج کرنے کی بجائے
باہم مل جل کر ملکی کشتی کو اقتصادی بدحالی، دہشت گردی، فرقہ واریت، جمالت، مغربی ثقافت کی
یلقار اور بدامنی کے بھنوڑ سے نکالنے کی ملخصانہ سی کریں۔ اہل سیاست اور ارباب حل و عقد
سے یہ بات غافل نہیں کہ دشمن ہمارے سر پر بیٹھا ہے اور ہم سے غافل نہیں۔ خدا نخواستہ کہیں
ایسا نہ ہو کہ وہ ہماری اس ٹانگ کھینچنے کی سیاست سے ناجائز فائدہ اٹھائے۔ اور ہم کف افسوس
ملتے رہ جائیں۔ اللہ کریم ایسا دن کبھی نہ دیکھائے۔ آمین۔

